

# Psa

## Chapter 118

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	הודו	לִיהוּוָה	כִּי	מָה	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	شکر-کرو	یہوواہ-کا	کیونکہ	بہلا-ہے	کیونکہ	بمیشہ-رہے-گی	اُس-کی-شفقت
	<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H3068</a>				<a href="#">H5769</a>	

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس اور ہے، بہلا وہ کیونکہ کرو، شکر کا رب

2	יְאמַר-	נָא	יִשְׂרָאֵל	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	کہے	اب	اسرائیل	کہ	بمیشہ-رہے-گی	اُس-کی-شفقت
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H5769</a>	

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس کہے، اسرائیل

3	יְאמְרוּ-	נָא	בֵּית-	אֲהָרֹן	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	کہے	اب	گھرانہ	بارون-کا	کہ	بمیشہ-رہے-گی	اُس-کی-شفقت
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4994</a>		<a href="#">H0175</a>		<a href="#">H5769</a>	

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس کہے، گھرانہ کا بارون

4	יְאמְרוּ-	נָא	יְרֵאִי	יְהוָה	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	کہیں	اب	ڈرنے-والے	یہوواہ-سے	کہ	بمیشہ-رہے-گی	اُس-کی-شفقت
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H5769</a>	

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس کہیں، والے ماننے خوف کا رب

5	מִן-	הַמַּצָּר	קָרָאתִי	יְהוָה	עֲנֵנִי	בְמַרְתָּב	יְהוָה:
	سے	تنگی	میں-نے-پکارا	یہ	جواب-دیا-مجھے	کشاہگی-میں	یہ-نے
		<a href="#">H4712</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H3050</a>		<a href="#">H4800</a>	<a href="#">H3050</a>

ہے۔ دیا کر قائم میں میدان کھلے کو پاؤں میرے کر سن میری نے رب تو پکارا کو رب نے میں مصیبت

6	יְהוָה	לִי	לֹא	אִירָא	מָה-	יַעֲשֶׂה	לִי	אָדָם:
	یہوواہ	میرے-ساتھ-ہے	نہیں	ڈروں-گا	کیا	کرے-گا	میرے-ساتھ	انسان
	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H4100</a>			<a href="#">H0120</a>

ہے؟ سکتا بگاڑ کیا میرا انسان گا۔ ڈروں نہیں میں لئے اس ہے، میں حق میرے رب

7	יְהוָה	לִי	בְעֹזְרִי	אֶזְנִי	אֶרְאֶה	בְּשֹׁנָאִי:
	یہوواہ	میرے-ساتھ-ہے	میرے-مددگاروں-میں	اور-میں	دیکھوں-گا	اپنے-دشمنوں-کو
	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H5826</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H8130</a>

ہیں۔ کرتے نفرت سے مجھ جو گا ہوں خوش کر دیکھ شکست کی اُن میں لئے اس ہے، سہارا میرا اور ہے میں حق میرے رب

8	טוֹב	לְחַסוֹת	בִּיהוָה	מִבְּטָח	בְּאָדָם:
	بہتر-ہے	پناہ-لینا	یہوواہ-میں	بجائے	انسان-پر-بھروسا
		<a href="#">H2620</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0982</a>	<a href="#">H0120</a>

ہے۔ بہتر کہیں سے کرنے اعتماد پر انسان لینا پناہ میں رب

9	טוֹב	לְחַסוֹת	בִּיהוָה	מִבְּטָח	בְּנְדִיבִים:
	بہتر-ہے	پناہ-لینا	یہوواہ-میں	بجائے	امیروں-پر-بھروسا
		<a href="#">H2620</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0982</a>	<a href="#">H5081</a>

بے بہتر کہیں سے کرنے اعتماد پر شرفا لینا پناہ میں رب

10	כָּל- سب	גוֹיִם قوموں-نے	סְבִיבֹנִי گھیر-لیا-مجھے	בְּשֵׁם نام-میں	יְהוָה یہوواہ-کے	כִּי میں-نے	אֲמִילָם: انہیں-کاٹ-دیا
	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>		

دیا۔ بھگا انہیں کر لے نام کا اللہ نے میں لیکن لیا، گھیر مجھے نے اقوام تمام

11	סְבִיבֹנִי گھیر-لیا-مجھے	גַּם- ہاں	סְבִיבֹנִי گھیر-لیا-مجھے	בְּשֵׁם نام-میں	יְהוָה یہوواہ-کے	כִּי میں-نے	אֲמִילָם: انہیں-کاٹ-دیا
	<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>		

دیا۔ بھگا انہیں کر لے نام کا اللہ نے میں لیکن لیا، گھیر سے طرف چاروں ہاں لیا، گھیر مجھے نے انہوں

12	סְבִיבֹנִי گھیر-لیا-مجھے	שֹׁהַד- شہد-کی-مکھیوں-کی-طرح	כְּדַבָּרֵיהֶם بجھ-گئے	כְּאֵשׁ آگ-کی-طرح	קוֹצִים کانٹوں-کی	בְּשֵׁם نام-میں	יְהוָה یہوواہ-کے	כִּי میں-نے
	<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H1682</a>	<a href="#">H1846</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H6975</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>	

אֲמִילָם:  
انہیں-کاٹ-دیا

کر لے نام کا رب نے میں گئے۔ بجھ ہی جلد طرح کی آگ کی جھاڑیوں کانٹے دار لیکن بوئے، آور حملہ پر مجھ سے طرف چاروں طرح کی مکھیوں کی شہد وہ دیا۔ بھگا انہیں

13	דִּחְיָה دھکیلا-گیا	דִּחְיָה دھکیلا-گیا-مجھے	לִפְלֹ گرنے-کے-لیے	וַיְהוָה لیکن-یہوواہ	עֲזָרָנִי میری-مدد-کی
		<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H5826</a>

کی۔ مدد میری نے رب لیکن کی، کوشش کی گرانے کر دے دھکا مجھے نے دشمن

14	עֲזָרָה میری-طاقت	אֶבֶן اور-گیت-بے	יָהּ یاہ	וַיְהוָה اور-بو-گیا	לִי میرے-لیے	לְיִשׁוּעָה: نجات
	<a href="#">H5797</a>	<a href="#">H2176</a>	<a href="#">H3050</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3444</a>

بے۔ گیا بن نجات میری وہ ہے، گیت میرا اور قوت میری رب

15	אֶבֶן آواز	רֶחֶם خوشی-کی	וַיְהוָה اور-نجات-کی	בְּאֶחָד خیموں-میں	צְדִיקִים صادقوں-کے	יָמִין دبنا-باتھ	עֲשָׂה یہوواہ-کا	חֵיל: بہادری
		<a href="#">H7440</a>	<a href="#">H3444</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2428</a>

بے! کرتا کام زبردست باتھ دہنا کا ر ب ہیں، گونجتے میں خیموں کے بازوں راست نعرے کے فتح اور خوشی

16	יָמִין دبنا-باتھ	יְהוָה یہوواہ-کا	רֶחֶם بلند-بے	יָמִין دبنا-باتھ	יְהוָה یہوواہ-کا	עֲשָׂה کرتا-بے	חֵיל: بہادری
	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7426</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H2428</a>

بے! کرتا کام زبردست باتھ دہنا کا رب ہے، کرتا سرفراز باتھ دہنا کا رب

17	לֹא نہیں	אֲמוֹת مروں-گا	כִּי- بلکہ	אֶחָד میں-جیوں-گا	וְאֶסְפֵּר اور-بیان-کروں-گا	מַעֲשֵׂי کام	יָהּ: یاہ-کے
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>		<a href="#">H2421</a>		<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3050</a>

گا۔ کروں بیان کام کے رب کر رہ زندہ بلکہ گا مروں نہیں میں

18	יָסַר سخت-تربیت	יִסְרֵנִי تربیت-دی-مجھے	יָהּ یاہ-نے	יְלֻמּוֹת لیکن-موت-کے-حوالے	לֹא نہیں	נִתְנָנִי: نہیں-کیا-مجھے
	<a href="#">H3256</a>	<a href="#">H3256</a>	<a href="#">H3050</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>

کیا نہیں حوالے کے موت مجھے نے اُس ہے، کی تادیب سخت میری نے رب گو

19	פְתוּחַ	לִי	שַׁעֲרֵי	צֶדֶק	אָבֹא	כֶּם	אוֹרָה	יָהּ:
	کھولو	میرے لیے	دروازے	راستبازی کے	میں داخل ہوں گا	اُن میں	شکر کروں گا	یہ کا
			<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H3050</a>

کروں۔ شکر کا رب کر ہو داخل میں اُن میں تاکہ دو کھول لے میرے دروازے کے راستی

20	יָהּ	הַשַּׁעַר	לַיהוָה	צְדִיקִים	יָבֹאוּ	בּוֹ:
	یہ	دروازہ ہے	یہوواہ کا	صادق	داخل ہوں گے	اُس میں
	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H0935</a>	

ہیں۔ بوتے داخل باز راست میں اسی ہے، دروازہ کا رب یہ

21	אוֹרָה	כִּי	עֲנִיתִי	וַתְּהִי	לִי	לְיִשׁוּעָה:
	شکر کروں گا۔ تیرا	کیونکہ	ٹو نے۔ جواب دیا۔ مجھے	اور ہو گیا	میرے لیے	نجات
	<a href="#">H3034</a>			<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3444</a>

ہے۔ بجایا مجھے کر سن میری نے ٹو کیونکہ ہوں، کرتا شکر تیرا میں

22	אֶבֶן	מֵאֲסוֹ	הַבִּזְוִיִּם	הַיְהוּדָה	לְרֹאשׁ	פְּנֵה:
	پتھر	رد کیا۔ جسے	معماروں نے	بن گیا	سر	کوئے کا
	<a href="#">H0068</a>		<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H6438</a>

گیا۔ بن پتھر بنیادی کا کوئے وہ کیا رد نے والوں بنانے مکان کو پتھر جس

23	מֵאֵת	יְהוָה	הַיְהוּדָה	זָאת	הִיא	נִפְלְאוֹת	בְּעֵינֵינוּ:
	طرف سے	یہوواہ کی	ہوا	یہ	یہ	عجیب ہے	ہماری آنکھوں میں
	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6381</a>	

ہے۔ انگیز حیرت کتنا میں دیکھنے اور کیا نے رب یہ

24	יָהּ	הַיּוֹם	עָשָׂה	יְהוָה	נִגִּילָה	וַיְשַׂמְחֵה	בּוֹ:
	یہ	دن ہے	بنایا	یہوواہ نے	ہم خوشی۔ منائیں	اور شادمان ہوں	اُس میں
	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1523</a>	<a href="#">H8055</a>	

منائیں۔ خوشی کی اُس کر بجا شادیاں ہم آؤ، ہے۔ دکھائی قدرت اپنی نے رب دن اسی

25	אֶנָּה	יְהוָה	הוֹשִׁיעָה	נָא	אֶנָּה	יְהוָה	הַצְלִיחָה	נָא:
	اے	یہوواہ	بچا	بیشک	اے	یہوواہ	کامیابی دے	بیشک
	<a href="#">H0577</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H0577</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4994</a>	

فرما! عطا کامیابی کے کر مہربانی رب، اے بچا! ہمیں کے کر مہربانی رب، اے

26	בְּרוּךְ	הַבָּא	בְּשֵׁם	יְהוָה	בִּרְכּוֹנְכֶם	מִכֵּת	יְהוָה:
	مبارک ہے	آنے والا	نام میں	یہوواہ کے	ہم نے۔ برکت دی۔ تمہیں	گھر سے	یہوواہ کے
	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1288</a>		<a href="#">H3068</a>

ہیں۔ دیتے برکت تمہیں ہم سے گاہ سکونت کی رب ہے۔ آتا سے نام کے رب جو وہ ہے مبارک

27	וְאֵל	יְהוָה	וַיֵּאָר	לָנוּ	אֶסְרֹו	חַג	בְּעֵבְרִים	עֵד-	קְרִזוֹת	הַמְזֻבָּח:
	خدا ہے	یہوواہ	اور۔ روشنی دی۔ اُس نے	ہمیں	باندھو	تہوار	رسیوں سے	تک	سینگوں	قربان گاہ کے
	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H0631</a>	<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H5688</a>	<a href="#">H5704</a>			<a href="#">H4196</a>

باندھو۔ ساتھ کے سینگوں کے گاہ قربان سے رسیوں قربانی کی عید آؤ، ہے۔ بخشی روشنی ہمیں نے اُس اور ہے، خدا ہی رب

28	אֱלֹהֵי	אֲתָה	וְאוֹרָה	אֱלֹהֵי	אֶרֶזְמֻמָּה:
	میرا۔ خدا ہے	ٹو	اور۔ شکر کروں گا۔ تیرا	میرے۔ خدا	سر بلند کروں گا۔ تجھے
	<a href="#">H0410</a>		<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H0430</a>	

ہوں۔ کرتا تعظیم تیری میں خدا، میرے اے ہوں۔ کرتا شکر تیرا میں اور ہے، خدا میرا تُو

29      הַזְרֵנו      לַיהוָה      כִּי-      טוֹב      כִּי      לְעוֹלָם      חַסְדּוֹ:  
شکر-کرو      یہوواہ-کا      کیونکہ      بھلا-ہے      کیونکہ      ہمیشہ-رہے-گی      اُس-کی-شفقت  
[H3034](#)      [H3068](#)      [H5769](#)

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس اور ہے بھلا وہ کیونکہ کرو، ستائش کی رب